



سوال

(335) غسل کے بعد خون

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

معمول کے پانچ ایام گزار کر غسل کرنے کے بعد کبھی کبھی یہ دیکھتی ہوں کہ غسل کے فوراً بعد نہایت معمولی سی مقدار میں خون آیا ہے، ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا بلکہ ہر دو یا تین حیضوں کے بعد اس طرح ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے معمول کے پانچ ایام گزار کر نماز، روزہ شروع کر دوں یا اس چھٹے دن کو بھی معمول کا دن شمار کروں اور نماز، روزہ ادا نہ کروں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

طہارت کے بعد خارج ہونے والا مادہ اگر زرد یا ٹیالے رنگ کا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا حکم پیشاب کے حکم میں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر وہ صاف طور پر خون ہو تو اسے حیض شمار کیا جائے گا اور تمہیں دوبارہ غسل کرنا ہوگا کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا۔۔۔ (ان کا شمار صحابیات میں ہے۔۔۔) سے روایت ہے کہ :

«كنا لاند الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» (صحیح بخاری)

“طہارت کے بعد ہم زرد یا ٹیالے رنگ کے خارج ہونے والے پانی کو کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھیں۔” (شیخ ابن باز)

حد ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 321

محدث فتویٰ